

سوال

ہمارے ہاں ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ: یوم عرفہ کا روزہ سنت نہیں، اور اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے کہ جناب والا آپ اس سوال کا جواب دیں، کیونکہ یہ مولانا صاحب یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھنے کے پمفلٹ تحریر کر کے تقسیم کر رہے ہیں، جناب والا اسکا جواب ضرور دیں۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

یوم عرفہ کا روزہ غیر حاجی کے لیے سنت مؤکدہ ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

" یہ روزہ پچھلے اور ایک برس آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے "

صحیح مسلم حدیث نمبر (1162) .

اور ایک روایت میں ہے:

" میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پچھلے ایک برس اور آئندہ ایک برس کے گناہ معاف کرتا ہے "

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" اس مسئلہ کے حکم میں امام شافعی اور اصحاب کہتے ہیں: جو میدان عرفہ میں نہیں اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن جو حاجی عرفات میں ہے اسکے متعلق امام شافعی اور اصحاب "المختصر" میں کہتے ہیں: اس کے لیے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کی بنا پر روزہ نہ رکھنا مستحب ہے، اور ہمارے اصحاب کی ایک جماعت کہتی ہے اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس کی کراہت کی صراحت بیان کرنے والوں میں دارمی، بندنجی، اور محاملی شامل ہیں، انہوں نے المجموع میں اور مصنف نے التنبیہ میں اور دوسروں نے بھی صراحت کی ہے " انتہی۔

دیکھیں: المجموع (6 / 428) .

اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" یہ (یوم عرفہ) عظیم شرف والا دن ہے، اور عید ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا دو برس کے گناہوں کا کفارہ ہے " انتہی۔

دیکھیں: المغنی ابن قدامہ (4 / 443)۔

اور ابن مفلح رحمہ اللہ حنبلی کتب کی کتاب " الفروع " میں لکھتے ہیں:

" اور عشرہ ذوالحجہ کے روزے رکھنے مستحب ہیں، اور خاص کر نو ذوالحجہ (یوم عرفہ) کا روزہ تاکیداً رکھنا مستحب ہے اس پر اجماع ہے " انتہی۔

دیکھیں: الفروع (3 / 108)۔

اور کاسانی رحمہ اللہ نے " بدائع الصنائع " حنفی کتاب میں لکھا ہے:

" اور غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کے متعلق بہت ساری احادیث وارد ہیں، اور اس لیے بھی کہ عشرہ ذوالحجہ کو دوسرے ایام پر وہ فضیلت حاصل ہے جو کسی اور کو نہیں، اور اسی طرح حاجی کے حق میں بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر روزہ اس کے لیے وقوف عرفہ اور دعا و عبادت کرنے میں کمزوری کا باعث نہ بنے، کیونکہ اس طرح اللہ کا قرب حاصل کرنے والی یہ دونوں عظیم عبادات کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ اس کے لیے کمزوری کا باعث بنے تو پھر مکروہ ہے، کیونکہ اس دن کے روزے کی فضیلت تو کسی اور برس بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور عادتاً یہ حاصل بھی ہو جاتی ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے وقوف عرفہ تو زندگی میں ایک بار ہی حاصل ہوتا ہے، تو اسے حاصل اولیٰ اور افضل ہے "۔

دیکھیں: البدائع الصنائع (2 / 76)۔

اور فقہ مالکی کی کتاب " شرح مختصر الخلیل " میں درج ہے:

" اور اگر حج نہ کرے تو یوم عرفہ اور عشرہ ذوالحجہ کے روزے رکھنا۔

شرح: اس سے مصنف کی مراد یہ ہے کہ غیر حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنا مستحب ہے تا کہ وہ وقوف عرفہ میں دعاء وغیرہ عبادات کے لیے تقویت حاصل کر سکے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج میں روزہ نہیں رکھا تھا " انتہی۔

دیکھیں: شرح مختصر الخلیل للخرشی (6 / 488) .

اور حاشیة الدسوقی میں لکھا ہے:

" پھر اسکا یہ قول کہ: اور یوم عرفہ کا روزہ مندوب ہے الخ.

اس سے مراد مندوب ہونے کی تاکید ہے، وگرنہ روزہ رکھنا تو مطلقاً مندوب ہے "

دیکھیں: حاشیة الدسوقی (5 / 80) .

اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے درج ذیل سوال کیا گیا:

" حاجی اور حاجی کے علاوہ دوسرے افراد کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے ؟

شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا:

" غیر حاجی یعنی عام شخص کے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت مؤکدہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا:

" مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک برس قبل اور ایک برس بعد کے گناہ معاف کر دے گا "

اور ایک روایت میں ہے:

" یہ پچھلے ایک برس آئندہ ایک برس کا کفارہ ہے "

لیکن حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مسنون نہیں، کیونکہ حجة الوداع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا تھا، صحیح بخاری میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوم عرفہ کے روزے کا شك تھا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھیجا تو آپ نے دوران وقوف ہی سب لوگوں کے سامنے اسے نوش فرما لیا " انتہی.

دیکھیں: مجموع فتاویٰ ابن عثیمین جلد (20) سوال نمبر (404) .

اس لیے حاجی کے حق میں یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب نہیں، بلکہ مکروہ ہے، تو اگر متکلم کی یہ مراد ہے تو پھر اس نے بات صحیح کی ہے، لیکن اگر اس کی مراد غیر حاجی کے لیے بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مشروع نہیں، تو یہ غلط ہے، اور صحیح احادیث کے مخالف ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے.



والله اعلم .